

10. Ati ki ɛ wa na ninu ohun ti A ɛ ni ese fun nyin ɕiwaju ki iku to de wa ba ɛnikan nyin, depo ti yio fi ma sɔpe: Oluwa mi, kiloɕe ti O kò lɔ mi lara di igba kanti o sunmɔ, ki emi le fi tɔrɔ anu ati ki nle jɛ ɔkan ninu awɔn ɛni rere.

11. Atipe Qlɔhun kò ni lɔ ɛmikan lara nigbati akoko rɛ ba de, atipe Qlɔhun na ni Alamɔtan ohun ti ɛ nɕe.

(64) Suratul - Tagābunu

*Ni orukɔ Qlɔhun Ajɔkɛ aiyɛ,
Aɕakɛ ɔrun.*

1. Ohun ti mbɛ ninu sanma ati ohun ti mbɛ ninu ilɛ nɕe afɔmɔ fun Qlɔhun. ti Rɛ ni ɔla, atipe ti Rɛ ni ɔpɛ; atipe On ni Alagbara lori gbogbo nkan.

2. On ni ɛniti O ɕe ɛda nyin, alaigbagbɔ mbɛ ninu nyin atipe onigbagbɔ ododo si mbɛ ninu nyin. Atipe Qlɔhun na ni Oluri ohun ti ɛ nɕe.

3. On da sanma ati ilɛ pɛlu ododo, O si ya awɔn aworan nyin, O si ɕe awɔn aworan nyin na daradara; atipe ɔdɔ Rɛ ni ɛ o padasi.

4. O mɔ ohun ti mbɛ ninu sanma ati inu ilɛ, O si mɔ ohun ti ɛ fi npamɔ ati ohun ti ɛ nɕe afihan rɛ

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٤﴾

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

سُورَةُ التَّغَابُنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْجُدُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٤﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٦﴾

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُنْفِكُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٧﴾

sita. Atipe Qlōhun na ni Oni-mimō ohun ti mbẹ ninu awōn igbaiya.

5. Njẹ iro awōn ẹniti nwōn ẹ aigbagbọ ni işiwaju kò ti wa ba nyin bi? Nitorina nwōn tōwo buburu iyà ẹşş wōn. Atipe ti nwōn ni iyà ẹlẹta-elero.

6. Eyi ri bẹ nitoripe awōn ojişş wōn ti jẹ ẹniti nwōn ti wa ba wōn pẹlu idi ọrọ ti o yanju ti nwōn si sope: Njẹ abara ni yio fi wa mōna? Nwōn si ẹ aigbagbọ nwōn si pẹhinda atipe Qlōhun ti rọ ọrọ (ju ẹsin wōn lọ). Atipe Qlōhun na ni Qlōrọ, Qba ti a ndupe fun.

7. Awōn ẹniti nwōn ẹ aigbagbọ rope: (Qlōhun) kò ni le gbe wōn dide. Sope: Bẹni, Oluwa mi ni mo fi bura, dajudaju a o gbe nyin dide lẹhinna a o fun nyin niro ohun ti ẹ ti ẹ. Atipe eyi jẹ irorun fun Qlōhun.

8. Nitorina ki ẹ gba Qlōhun gbo ati ojişş Rẹ ati imọlẹ eyiti A şokale. Atipe Qlōhun na ni Alamotan ohun ti ẹ nşş nişş.

9. (Ranti) ojo ti yio ko nyin jo fun ojo ikojo, eyihun ni ojo èrè (fun awōn olugbagbọ lododo) ati ojo adanu (fun awōn alaigbagbọ). (Tagābuni). Ẽnikẹni ti o ba ni igbagbọ ododo si Qlōhun ti o si ẹ işş rere, On yio pa-rẹ aşişş rẹ fun u

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
فَدَأَوْا بِآلِ أَمْرِهِمْ وَهُمْ عَدَاؤُا لِمِمَّا
﴿٦٤﴾

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا
أَشْرِكِيَهُمْ وَعَدُوًّا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَوْا
أَنَّهُ وَاللَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦٤﴾

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِوَدْعِهِ لَنَبْتَضِينَ
ثُمَّ لَنَنْبِتُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

فَتَأْمُرُوهُمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٦٦﴾

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنِ
بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. وَيُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَالْقُرُورُ الْعَظِيمَةُ ﴿٦٧﴾

yio si fi sinu oḡba idera ti awon odo nṣan ni isaleṣ reṣe ti nwon yio se gberere ninu reṣe lailai. Eyi ni ere ti o tobi.

10. Atipe awon eniti nwon se aigbagbo ti nwon si pe awon ami Wa niru, awon elewoni ni ero ina, ti nwon yio se gberere ninu reṣe; atipe o buru ni apadasi.

11. Adanwo kan ko le sele ayafi pelu iyoda ti Qloḡhun. Atipe enikeni ti o ba gba Qloḡhun gbo yio fi okan reṣe mona. Qloḡhun ni Oni-mimo gboḡbo nkan.

12. Atipe ki e tele ti Qloḡhun ati ki e tele ti Ojise na; bi enyin ba si yipada, nitorina ohun ti o je oranyan fun Ojise Wa ni ijise (Qloḡhun) de ogongo ti o han.

13. Qloḡhun, kosi qloḡhun miran ayafi On. Atipe ki awon olugbagbo ododo fi ara ti Qloḡhun.

14. Enyin eniti e gbagbo lododo, dajudaju ota yio ma be fun nyin ninu awon iyawo nyin ati awon omu nyin, nitorina ki e sora nyin ni odo won. Bi e ba si se (idekun) amojukuro ti e se ipamora ti e si se aforijin, nitorina dajudaju Qloḡhun ni Alaforiji, Onike.

15. Dajudaju awon owu nyin ati awon omu nyin adanwo ni won je, atipe Qloḡhun ni esan ti o tobi loḡo.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ
وَأُولَٰئِكَ مَعَكُمْ فَأَجْزَلُهُمْ
وَإِن تَعَفَّوْا وَنَصَفَحُوا وَتَغَفَّرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

16. Nitorina e beɾu Qlɔhun bi e ba ti ni agbara mo, ki e si gbɔro ki e si teɓe (ti Qlɔhun) ki e si ma na owo nyin (si ti ɔna Oluwa); o je ore kan fun nyin. Atipe eni-ti a ba so (da'bobo) nibi ahun ti emi re (l'epe k'oŝe), awon elewonyi ni olujere.

17. Bi enyin ba ya Qlɔhun ni owó ni yiya ti o dara, yio di adipele re fun nyin yio si foriji nyin. Atipe Qlɔhun na ni Oludupe, Oni-suru.

18. Oni-mimo kòkò ati ti gbangba, Olupataki ni Qjogbon ni.

(65) *Suratul - Talāk*

Ni oruko Qlɔhun Ajokɛ aije, Aŝakɛ orun.

1. Ire Annabi nigbati enyin ba fe ko awon obirin silɛ, nigbana ki enyin ko won pelu titele akoko won, ki enyin ka onka akoko na (pe); ki enyin si paiya Qlɔhun Oluwa nyin. Ki enyin maŝe le won jade ninu ile won, atipe awon na ko gbodo jade, ayafi ti won ba lo ŝe ibaje ti o han gedegbe. Awonyi ni enu-ala Qlɔhun, eniti o ba tayo enu-ala Qlɔhun, dajudaju o ti ŝe abosi fun ori ara re. Ire ko le mo boya Qlɔhun le je ki oro miran ŝele lehin eyini.

2. Nigbati won ba lo akoko won tan, ki enyin fara nyin moɾa

فَأَنفِرُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا
وَأَنفِرُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ
شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٥﴾

إِن تَقْرَضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٨﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَإِلَّا فَحُدُودَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٧﴾

فَأَذِلَّةٌ لِأَهْلِهِنَّ فَأَمَسِيكُوهُنَّ مِن بَعْدِ رُفُوفِ أَوْفَارِكُوهُنَّ